

DEPARTMENT *Foreign*  
BRANCH *Persian*  
Controlling Agency

*Cutting Papers*

Collection No *122* *1857*

CONSULTATION

Serial No. *32*

Dated *14 August 1857*

Subject *The C. in C. to The Thanchdar*  
*of Bhijalafchari. Censures*  
*him for his negligence in carrying*  
*out The Kotwali's orders.*  
(Vers: *The Thanchdar denies*  
*the alleged negligence.*)

Previous reference

*Fol I, Size 12" x 7 1/2"*

Later reference



1

عوت لار بیدار گدو صلد  
سا خط

ملاحظہ فرمادیں کہ اس شعر میں جو ہے داخل ہے اس میں واضح ہے کہ ہم ہر وقت کوئی کمال  
کے لئے نہیں کرتے بلکہ عدم ہرگز نہیں ہوتا بلکہ اس کے واسطے کہو لکھا جا تا رہا اگر اس کے کھار  
سے کھار میں ہرگز نہیں کوئی کمال ہے بلکہ اس کے واسطے کہو لکھا جا تا رہا اگر اس کے کھار  
بہتر نہ ہو گا تا کہ یہ حال ہو کہ اس میں داخل ہے اس میں

۲۲  
۱۳۰۳

۱۳۰۳

۱۳۰۳

۲

ز سر در عادل زمان

بدون علم اقرار کرده است  
و اقرار حکم کرده است  
نعمت و حسن  
نعمت و حسن

۱۳۰۳

